

سندھ ایکٹ نمبر VI مجریہ ۱۹۹۱  
**SINDH ACT NO.VI OF 1991**  
سندھ سروس ٹریبونلز (ترمیم) ایکٹ، ۱۹۹۱  
**THE SINDH SERVICES TRIBUNALS**  
**(AMENDMENT) ACT, 1991**  
**فہرست (CONTENTS)**

تمہید (Preamble)  
دفعات (Sections)  
۱۔ مختصر عنوان اور شروعات  
Short title and commencement  
۲۔ ۱۹۷۳ کے سندھ ایکٹ XV کی دفعہ ۲ کی ترمیم  
Amendment of section 2 of Sindh Act XV of 1973  
۳۔ ۱۹۷۳ کے سندھ ایکٹ XV کی دفعات 3-B، 3-C، 3-D کی شمولیت  
Insertion of Section 3-B, 3-C, 3-D of Sindh Act XV of  
1973  
۴۔ ۱۹۷۳ کے سندھ ایکٹ XV کی دفعہ ۸ کی ترمیم  
Amendment of section 8 of Sindh Act XV of 1973  
۵۔ ۱۹۹۱ کے سندھ آرڈیننس II کی منسوخی  
Repeal of Sindh Ordinance II of 1991

سندھ ایکٹ نمبر VI مجریہ ۱۹۹۱  
**SINDH ACT NO.VI OF 1991**  
سندھ سروس ٹریبونلز (ترمیم) ایکٹ،  
۱۹۹۱

# THE SINDH SERVICES TRIBUNALS (AMENDMENT) ACT, 1991

[۱۳ جون ۱۹۹۱]

ایکٹ جس کی توسط سے سندھ سروس ٹریبونلز ایکٹ، ۱۹۷۳ میں ترمیم کی جائے گی۔

تمہید (Preamble)

جیسا کہ سندھ سروس ٹریبونلز ایکٹ، ۱۹۷۳ میں ترمیم کرنا مقصود ہے، جو اس طرح ہوگی؛ اس کو اس طرح عمل میں لایا جائے گا:

مختصر عنوان اور شروعات

۱۔ (۱) اس ایکٹ کو سندھ سروس ٹریبونلز (ترمیم) ایکٹ، ۱۹۹۱ کہا جائے گا۔  
(۲) یہ فی الفور نافذ ہوگا۔

Short title and commencement

۱۹۷۳ کے سندھ ایکٹ XV کی دفعہ ۲ کی ترمیم

۲۔ سندھ سروس ٹریبونلز ایکٹ، ۱۹۷۳ میں، جس کو اس کے بعد بھی مذکورہ ایکٹ کہا جائے گا، اس کی دفعہ ۲ کی شق (c) میں، آخر میں آنے والے فل اسٹاپ سے پہلے، لفظ اور عدد "یا دفعہ 3-B" شامل کیئے جائیں گے۔

Amendment of section 2 of Sindh Act XV of 1973

۱۹۷۳ کے سندھ ایکٹ XV کی دفعات 3-B، 3-C، 3-D کی شمولیت

۳۔ مذکورہ ایکٹ میں، دفعہ 3-A کے بعد، مندرجہ ذیل نئی دفعات شامل کی جائیں گی:

Insertion of Section 3-B, 3-C, 3-D of Sindh Act XV of 1973

"3-B۔ (ماتحت عدالتوں کے میمبران کے لیئے ٹریبونل) جب تک کچھ دفعہ ۳ کے متضاد نہ ہو، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہائی کورٹ کی تین ججز پر مشتمل ٹریبونل بنا سکتا ہے، جن میں سے سب سے سینئر چیئرمین ہوگا اور باقی دو ججز ٹریبونل کے میمبر کے طور پر کام کریں گے اور اس طرح تشکیل دی گئی ٹریبونل کو ماتحت عدالتوں کے میمبرز کی خدمات کی شرائط و ضوابط سے متعلقہ معاملات بشمول انتظامی معالجات کے اوپر مکمل دائرہ اختیار ہوگا۔"

۱۹۷۳ کے سندھ  
ایکٹ XV کی دفعہ ۸  
کی ترمیم  
Amendment of  
section 8 of  
Sindh Act XV of  
1973  
۱۹۹۱ کے سندھ  
آرڈیننس II کی  
منسوخی  
Repeal of Sindh  
Ordinance II of  
1991

"3-C- (ذیلی دفعہ 3-B کے تحت 3-A ٹریبونل پر نافذ نہیں ہوگا) دفعہ 3-B کے تحت تشکیل دی گئی ٹریبونل پر دفعہ 3-A میں شامل کچھ بھی نافذ نہیں ہوگا۔"

"3-B- (التویٰ میں کیسز کی منتقلی) ماتحت عدالتوں کے میمبرز کی خدمات کی شرائط و ضوابط سے متعلقہ سارے معاملات جو دفعہ ۳ میں مذکورہ ٹریبونل کے پاس التویٰ میں ہوں، وہ سارے سندھ سروس ٹریبونلز (ترمیم) آرڈیننس، ۱۹۹۱ کے نافذ ہونے کے فوری بعد دفعہ 3-B کے تحت قائم کردہ ٹریبونل کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔"

۳- مذکورہ ایکٹ کی دفعہ ۸ کی ذیلی دفعہ (۱) میں، آخر میں آنے والے فل اسٹاپ کو کولن سے تبدیل کیا جائے گا اور اس کے بعد مندرجہ ذیل شرطیہ بیان شامل کیا جائے گا:

"شرطیکہ دفعہ 3-B کے تحت قائم کردہ ٹریبونل کے سلسلے میں قواعد ہائی کورٹ کی مشاورت سے بنائے جائیں گے۔"

۵- سندھ سروس ٹریبونلز (ترمیم) آرڈیننس، ۱۹۹۱ کو منسوخ کیا جاتا ہے۔

نوٹ: ایکٹ کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے لیے ہے، جو کورٹ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا